

سرہی اب پھوڑیے ندامت میں

... جون ایلیا

سرہی اب پھوڑیے ندامت میں

نیند آنے لگی ہے فرقت میں

ہیں دیلیں تیرے خلاف مگر

سوچتا ہوں تیری حمایت میں

روح نے عشق کا فریب دیا

جسم کو جسم کی عداوت میں

اب فقط عادتوں کی ورزش ہے

روح شامل نہیں شکایت میں

یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم  
روٹھتے اب بھی ہیں مروت میں  
وہ جو تعمیر ہونے والی تھی  
لگ گئی آگ اس عمارت میں  
میرے کمرے کا کیا بیاں کہ یہاں  
خون تھوکا گیا ہے شرارت میں  
وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں  
اُس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں  
زندگی کس طرح بسر ہوگی  
دل نہیں لگ رہا محبت میں

Visit our websites:

[www.alkalam.pk](http://www.alkalam.pk) -- [alkalam.weebly.com](http://alkalam.weebly.com)